



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Members of Mari Petroleum Company Limited will be held on **Thursday, June 24, 2021** at 09:30a.m. at the Registered Office of the Company situated at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad, to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if thought fit, to approve equity investment in National Resources (Private) Limited (NRL), an associated company of MPCL, and for the aforesaid purpose, pass the following resolution as a Special Resolution, in accordance with section 199 of the Companies Act 2017:

“**RESOLVED** that, the approval of the Members of Mari Petroleum Company Limited (MPCL), be and is hereby granted in terms of Section 199 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, to invest a sum of Rs. 119 million to acquire 11.9 million fully paid ordinary shares at face value of Rs. 10 each, in National Resources (Private) Limited”

“**FURTHER RESOLVED** that, the Managing Director/CEO MPCL, or any General Manager duly authorized by him, be and is hereby authorized to take all necessary actions and do all acts, deeds and things including execution of documents and agreements for the purposes of implementing the aforesaid resolution.”

Statement of Material Facts under section 134(3) of the Companies Act 2017 containing information required under the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is annexed with this notice.

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

NOTES:

1. Coronavirus Contingency Planning for EOGM

In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, the Company intends to convene this EOGM with minimal physical interaction with the shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements.

Accordingly, the Company has made arrangements to ensure that the shareholders and other participants can attend the EOGM via video-link. Interested Members are required to send their email, Name, Folio Number and Number of Shares held in their names with subject “**Registration for EOGM of MPCL**” at corporate.affairs@mpcl.com.pk.

Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on June 23, 2021.



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

The Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on WhatsApp Number +321-5555425 and Email at corporate.affairs@mpcl.com.pk.

The Members are encouraged to attend the EOGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

2. Book Closure

The Share Transfer books of the Company shall remain closed from **June 18, 2021 to June 24, 2021** (both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on June 17, 2021, will be treated as in time for the purpose of attending the EOGM.

3. Attending EOGM in person or through Proxy

A Member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his/her behalf at the Meeting. A Proxy need not be a Member of the Company. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

CDC members are requested to bring with them their original CNIC or Passport along with Participant's ID Numbers and their Account Numbers at the time of attending the meeting in order to facilitate identification of the respective members. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

4. Contact Details

For any query/information, the shareholders may contact Corporate Affairs Department, Phone: 051-111-410-410, Email: info@mpcl.com.pk or to the Company's Shares Registrars, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone: 04235916714, 04235916719. Email: shares@corplink.com.pk, corplink786@gmail.com

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Mari Petroleum Company Limited to be held on **Thursday, June 24, 2021**.

1. As part of its long term growth strategy, MPCL is evaluating multiple investment opportunities in near-core and non-core sectors to diversify its business. Mineral exploration is a priority area as it is close to MPCL's core business. Foregoing in view, MPCL has entered into a joint venture arrangement by which a joint venture company namely, National Resources (Private) Limited, intends to undertake minerals mining projects in the province of Balochistan. These projects will involve, *inter alia*, exploration, survey, extraction, excavation, mining and sale of minerals (mainly copper and gold) in Balochistan.



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

2. MPCL has already acquired 9 million ordinary shares at face value of Rs 10 each in NRL in December 2020. MPCL now intends to invest a further Rs. 119 million to acquire 11.9 million fully paid right shares at face value of Rs. 10 each in NRL.
3. The other shareholders of NRL are M/s Arif Habib Equity (Private) Limited, M/s Y.B. Pakistan Limited, M/s Reliance Commodities (Private) Limited, M/s Liberty Mills Limited, each having 20% shareholding in NRL. The Board consists of representatives of all sponsor shareholders (including MPCL), the CEO and an independent director.
4. The authorized share capital of NRL is Rs. 1.2 billion comprising 120 million ordinary shares having face value of Rs 10 each. The current issued and paid up share capital of NRL is Rs. 450 million, comprising 45 million ordinary shares of Rs. 10 each. The Board of Directors of NRL has decided to raise further capital by issuing 65 million ordinary shares having face value of Rs. 10 each, by way of a Right Issue @ 65 shares for every 45 shares held, being offered at a price of Rs. 10 per share, subject to the provisions of the Articles of Association of NRL and the Companies Act, 2017. The purpose of the Right Issue is to raise funds for meeting working capital requirements of NRL.
5. MPCL is entitled to 13 million right shares. Out of its total entitlement, the Company intends to acquire 11.9 million shares at face value of Rs. 10 each, to bring its post-Right shareholding in NRL to 19%.
6. The Board of Directors of MPCL have no direct or indirect interest in the Special Business, except to the extent of their respective shareholding in MPCL and MD/CEO MPCL represents MPCL on NRL's Board.

Information under Regulations 3 and 4 of The Companies' (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017		
Equity investment in National Resources (Private) Limited		
(a) Disclosure for all types of investments:		
(A) Disclosure regarding associated company		
(i)	Name of Associated Company or Associated Undertaking	National Resources (Private) Limited
(ii)	Basis of Relationship	Associated Company
(iii)	Earnings / (Loss) per Share for the last three years	30 June 2020: Rs. (2.45) 08 February 2019 to 30 June 2019: Rs. (1.72)
(iv)	Break-up value per Share, based on last audited financial statements	30 June 2020: Rs. 6.59
(v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>30 June 2020</div> <div>(PKR in Million)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Non-current assets</div> <div>1.28</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Current assets</div> <div>246.10</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Equity</div> <div>237.39</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Non-current liabilities</div> <div>0.19</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Current liabilities</div> <div>9.80</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Operating revenue</div> <div>Nil</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Other income</div> <div>22.45</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Loss before taxation</div> <div>(85.15)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Loss after taxation</div> <div>(88.14)</div> </div>



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

(vi)	Further information (in case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations)		Not Applicable, as MPCL is investing in NRL and not any of its projects
	(I)	Description of the project and its history since conceptualization	N/A
	(II)	Starting date and expected date of completion of work	N/A
	(III)	Time by which such project shall become commercially operational	N/A
	(IV)	Expected time by which the project shall start paying return on investment	N/A
	(V)	Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts	N/A
(B) General Disclosures:			
(i)	Maximum amount of investment to be made		Rs. 119 million
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment		<p>Purpose: To meet NRL's working capital requirements / feasibility study.</p> <p>Benefits: Investment in NRL is in line with the Company's Mineral Exploration and Exploitation Strategy, which will hopefully generate substantial benefits for the Company and the Country in the long run.</p> <p>Period: This will be equity investment and therefore not period specific.</p>
(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:		MPCL will invest funds out of the retained earnings. No borrowed funds will be used.
	(I)	Justification for investment through borrowings	N/A
	(II)	Detail of Collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds	N/A
	(III)	Cost benefit analysis	N/A
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment		Pursuant to a joint venture arrangement among NRL sponsors, certain equity investment was agreed to be made into NRL. NRL will directly/indirectly undertake exploratory/appraisal steps relating to mineral mining in Balochistan and look at developing any viable mineral prospects.



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	None of the directors, sponsors, majority shareholders of MPCL and their relatives have any interest in NRL or the proposed transaction, except to the extent that MPCL holds 20% shareholding in NRL and MD/CEO MPCL represents MPCL on NRL Board.
(vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/ justification for any impairment or write offs	MPCL in November 2020 agreed to invest Rs. 209 million in NRL by subscribing to 20.9 million fully paid ordinary shares of NRL at face value of Rs. 10 each. MPCL has already invested Rs. 90 million and subscribed 9 million fully paid ordinary shares of NRL. The already invested amount along with the proposed investment of Rs. 119 million will be utilized by NRL to undertake feasibility studies in Balochistan/ to meet working capital requirement. The decision whether to proceed further will be taken on the basis of the results of the said studies at which point a performance review of the investment would be possible.
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	As narrated in paras 1-5 at the beginning of this statement.

(b) Additional disclosure regarding Equity Investment

(i)	Maximum price at which securities will be acquired	At face value of Rs. 10 per share
(ii)	In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Not applicable.
(iii)	Maximum number of securities to be acquired	11.9 million fully paid ordinary shares
(iv)	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	Before: 9 million (20%) After: 20.9 million (19%)
(v)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	Not Applicable
(vi)	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	NRL is currently in prefeasibility stage, it is therefore impractical to ascertain fair value at this stage.

The Directors of MPCL certify to the Members that necessary due diligence has been carried out for the proposed investment before recommending it for Members' approval.

As per latest available shareholders list of MPCL, as of 1st March 2021, neither NRL nor its sponsors and directors have any interest in MPCL except; Liberty Mills Ltd (a sponsor of NRL) has 133,500 shares in MPCL and Mr. Faheem Haider (a director of NRL) is the MD/CEO of MPCL and has two shares in MPCL.

By order of the Board



Assad Rabbani
Company Secretary

Islamabad
June 04, 2021

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورخہ 24 جون 2021ء بروز جمعرات بوقت 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤ وایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر 10/4-G، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

خصوصی کارروائی:

1. ماری پٹرولیم کمپنی سے وابستہ کمپنی نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (این آر ایل) میں اکیویٹی انویسٹمنٹ کی منظوری کیلئے غور و حوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 کے مطابق سیشنل ریزولوشن (خصوصی قواعد) کے طور اور طریقہ کے مطابق درج ذیل قواعد (ریزولوشن) کی منظوری:

”قرارداد کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 اور دیگر تمام دفعات کی روح سے ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (ایم پی سی ایل) کے ممبران کو اجازت کی منظوری کہ نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں بحساب 10 روپے فی شیئر 11.9 ملین کے مکمل ادا شدہ عمومی حصص کے حصول کیلئے 119 ملین روپے کی سرمایہ کاری“

”مزید قرارداد کہ مینجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو آفیسر ایم پی سی ایل یا اس کی جانب با اختیار قرار دیا گیا کوئی بھی جزل منیجر درج بالا قواعد (ریزولوشن) کے سلسلہ میں عملدرآمد کیلئے تمام ضروری اقدامات اور عوامل، امور یا چیزیں بشمول دستاویزی کارروائی اور معاہدوں کی انجام کا مجاز ہوگا“

کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) (اداروں) میں سرمایہ کاری (ریگولیشنز 2017) کے تحت درکار معلومات اور کمپنیز ایکٹ کی شق (3) 134 کے تحت بیان لف ہے۔

2. چیئر مین صاحب کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

نوٹس:

1. غیر معمولی اجلاس عام کیلئے کورونا وائرس کی ہنگامی منصوبہ بندی

موجودہ وبا (کورونا) کے باعث پیدا شدہ صورتحال میں، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے سٹیک ہولڈرز اور عوام کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اجلاس کی عمومی کارروائیوں میں تبدیلی کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں۔ اسی طرح، کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام کا انعقاد کورم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شیئر ہولڈرز کے مابین ہر ممکن سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے منعقد کرنا چاہتی ہے۔

اسی لحاظ سے کمپنی نے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ سٹیک ہولڈرز اور دیگر شرکاء کی غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیولنک شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔ خواہشمند ممبران کو اپنے نام، فولیو نمبر اور ان کے نام پر موجود شیئرز کی تعداد ہماری ای میل: corporate.affairs@mpcl.com.pk پر "Registration for EOGM of MPCL" کے سبجیکٹ (عنوان) کے ساتھ ارسال کریں۔ ویڈیولنک اور لاگ ان سے متعلق معلومات صرف ان ارکان کو شیئرز کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ مورخہ 23 جون 2021 کو کاروبار کے اختتام تک دیے گئے ای میل پر موصول ہو جائیں۔ ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز کیلئے اپنی آراء اور سوالات واٹس ایپ نمبر +321-5555425 پر اور ای میل corporate.affairs@mpcl.com.pk پر ارسال کر سکتے ہیں۔ ممبران ویڈیولنک یا پراکسی کے ذریعے حاضری یقینی بناتے ہوئے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کریں۔

2. کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 18 جون 2021ء سے 24 جون 2021ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی 17 جون 2021ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (Corplink) پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پر موصول شدہ ٹرانسفرز غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے اہل اور بروقت تصور کی جائیں گے۔

3. غیر معمولی اجلاس عام میں ذاتی طور پر یا بذریعہ پراکسی شرکت

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی شخص / نمائندہ کی بطور پراکسی تقرری کر سکتا ہے۔ پراکسی (نمائندہ) کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ اس مقصد کیلئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق مکمل شدہ انسٹرومنٹ آف پراکسی اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط پیش کیے جائیں (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔ سی ڈی سی ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی عمل کی آسانی کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ شرکت کنندہ کے آئی ڈی نمبرز اور ان کے اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ شریک ہوں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

4. رابطہ تفصیلات:

کسی بھی قسم کے استفسار / معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز (حصہ داران) کمپنی کے کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، فون: 410-410-111-051، ای میل: info@mpcl.com.pk پر یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل

ٹاؤن، لاہور۔ فون: 35916714-042, 35916719-042 - ای میل: shares@corplink.com
 corplink786@gmail.com پر رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (3) 134 کے تحت بیان

اس بیان میں ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 24 جون 2021 کی خصوصی کارروائی کی انجام دہی سے متعلق عملی حقائق کا تعین کیا گیا ہے۔

1. اپنی طویل المدتی ترقی کی حکمت عملی کے طور پر، ایم پی سی ایل اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے اہم بنیادی وغیر بنیادی شعبوں میں موجود متعدد مواقعوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ معدنیات کی تلاش ایک ترجیحی شعبہ ہے کیونکہ یہ ایم پی سی ایل کے بنیادی کاروبار سے قریب تر ہے۔ اسی کے پیش نظر، ایم پی سی ایل نے نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ جوائنٹ وینچر قائم کیا ہے جس کا مقصد صوبہ بلوچستان میں معدنیات کی کان کنی کے منصوبے پر کام کا آغاز ہے۔ ان منصوبوں میں منجملہ بلوچستان میں معدنیات) بنیادی طور پر تانبے اور سونے (کی تلاش، سروے، کھدائی، کان کنی، نکالنا اور فروخت شامل ہوگی۔
2. ایم پی سی ایل نے دسمبر 2020 کو این آر ایل میں 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 90 لاکھ عمومی حصص حاصل کیے۔ اب ایم پی سی ایل مزید 119 ملین روپے کی سرمایہ کاری این آر ایل میں کرتے ہوئے 11.9 ملین مکمل ادا شدہ عمومی شیئرز بحساب 10 روپے فی کس حاصل کرنا چاہتی ہے۔
3. این آر ایل کے دیگر حصص داران میں عارف حبیب ایکویٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، Y.B. پاکستان لمیٹڈ، ریلانس کموڈٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، لبرٹی ملز لمیٹڈ شامل ہیں جن میں سے ہر ایک 20 فیصد حصص کا حامل ہے۔ این آر ایل بورڈ تمام اسپانسر شیئر ہولڈرز) بشمول ایم پی سی ایل (، سی ای او اور ایک آزاد ڈائریکٹر پر مشتمل نمائندوں کی حامل ہے۔
4. این آر ایل 120 ملین عمومی شیئرز بحساب 10 روپے فی شیئر پر مشتمل 1.2 بلین روپے کے اتھرائزڈ کیپٹل کی حامل ہے۔ این آر ایل کا کرنٹ اشو اور پیڈ اپ کیپٹل 450 ملین روپے ہے جو کہ 45 ملین کے عمومی شیئرز بحساب 10 روپے فی شیئر پر مشتمل ہے۔ این آر ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 65 ملین عمومی شیئرز کے اجراء سے کیپٹل میں مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے، ہر 45 شیئر کے بدلے بحساب 65 شیئر کا رائٹ ایشو، جو کہ 10 روپے فی شیئر پر پیش کیا جا رہا ہے، جو این آر ایل کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ہوگا۔ رائٹ ایشو کا مقصد این آر ایل کے ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے فنڈز میں اضافہ ہے۔

5. ایم پی سی ایل 13 ملین رائٹ شیئرز کا استحقاق رکھتا ہے۔ اپنے کل استحقاق میں سے کمپنی کا ارادہ ہے کہ 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 11.9 ملین حصص حاصل کرتے ہوئے این آر ایل میں پوسٹ رائٹ شیئر ہولڈنگ کو 19% تک لایا جائے۔
6. ایم پی سی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی خصوصی کاروبار میں بالواسطہ بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوائے ایم پی سی ایل میں ان کی متعلقہ حصہ داری کے۔ اس کے علاوہ ایم ڈی اسی ای او ایم پی سی ایل، این آر ایل کے بورڈ پر کمپنی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

کمپنیوں (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) کے ریگولیشنز، 2017 کی ریگولیشن 3 کے تحت معلومات		
نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ایکویٹی انویسٹمنٹ		
(a) تمام قسم کی سرمایہ کاری کا انکشاف:		
(A) ایسوسی ایٹڈ کمپنی سے متعلق انکشاف		
(i)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کا نام	نیشنل ریسورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
(ii)	تعلق کی بنیاد (نوعیت)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی
(iii)	پچھلے تین سالوں میں فی شیئر آمدن / (نقصان)	30 جون 2020: (2.45) روپے 08 فروری 2019 تا 30 جون 2019: (1.72) روپے
(iv)	آخری آڈٹ شدہ فنانشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر، فی شیئر بریک اپ ویلیو	30 جون 2020: 6.59 روپے
(v)	مالی حیثیت، بشمول اس کے حالیہ مالی حسابات کی بنیاد پر مالی حیثیت اور نفع و نقصان کے بیانات	30 June 2020 (PKR in Million) Non-current assets 1.28 Current assets 246.10 Equity 237.39 Non-current liabilities 0.19 Current liabilities 9.80 Operating revenue Nil Other income 22.45 Loss before taxation (85.15) Loss after taxation (88.14)
(vi)	مزید معلومات (ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کے ایسے منصوبے جن پر کام کا آغاز نہیں ہوا میں سرمایہ کاری)	ناقابل اطلاق، کیونکہ ایم پی سی ایل کی سرمایہ کاری این آر ایل میں ہو رہی ہے نہ کہ اس کے کسی منصوبے میں
(I)	منصوبے کی تشکیل سے اس کی تاریخ و تفصیل	N/A

N/A	(II) کام کے آغاز کی تاریخ اور متوقع تاریخ تکمیل	
N/A	(III) منصوبے کے تجارتی سطح پر آغاز کا وقت	
N/A	(IV) منصوبے کی جانب سے سرمایہ کاری پر آمدن کے حوالے سے متوقع وقت	
N/A	(V) کیش اور نان کیش رقوم کے درمیان فرق کرتے ہوئے پروموترز، سپانسرز، ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ کی جانب سے کی جاچکی یا ہونے والی سرمایہ کاری	
	عمومی افکشافات:	(B)
119 ملین روپے	زیادہ سے زیادہ کی جانے والی سرمایہ کاری	(i)
مقصد: این آر ایل کے ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنا / امکانات کا مطالعہ فوائد: این آر ایل میں سرمایہ کاری کمپنی کی منزل (معدنیات (ایکسپلوریشن اور ایکسپلویٹیشن سٹریٹیجی کے مطابق ہے، جو کہ کمپنی اور ملک کیلئے طویل المدتی فوائد کا باعث ثابت ہوگی۔ مدت: یہ ایکویٹی انویسٹمنٹ ہوگی لہذا، مخصوص مدت کے لیے نہیں	سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس قسم کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل مقصد، فوائد	(ii)
ایم پی سی ایل برقرار رکھی ہوئی آمدنی میں سے فنڈز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ کوئی قرضے لینے والے فنڈز استعمال نہیں کیے جائیں گے۔	سرمایہ کاری کے لئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور قرض پر حاصل کردہ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے کس جگہ سرمایہ کاری کرنی ہے:	(iii)
N/A	(I) ادھار کے ذریعہ سرمایہ کاری کا جواز	
N/A	(II) ایسے فنڈز کے حصول کے لیے فراہم کردہ کولیٹرل گارنٹیز اور گروی شدہ اثاثوں کی تفصیل	
N/A	(III) لاگت پر فائدے کا تجزیہ	
این آر ایل سپانسر کے مابین جوائنٹ وینچر انتظام کے تحت، این آر ایل میں مخصوص ایکویٹی انویسٹمنٹ پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔ این آر ایل بلوچستان میں معدنیات کی کان کنی سے متعلق تلاش / تخمینہ کے اقدامات کا براہ راست / بالواسطہ انتظام کرے گا اور معدنیات کی ترقی کے حوالے سے قابل عمل امکانات پر غور کرے گا۔	مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ (ادارے کے ساتھ معاہدوں کی نمایاں خصوصیات، اگر کوئی ہوں،	(iv)

<p>ایم پی سی ایل کے کسی بھی ڈائریکٹر، سپانسر، اکثریتی حصص دار اور ان کے رشتہ داروں کا این آر ایل یا مجوزہ لین دین میں کوئی مفاد پوشیدہ نہیں، سوائے اس حد تک کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ این آر ایل میں 20 فیصد شیئرز کی حامل ہے اور ایم ڈی / سی ای او ماری پٹرولیم این آر ایل بورڈ میں ایم پی سی ایل کی نمائندگی کرتے ہیں۔</p>	<p>(v) کسی ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ادارے یا زیر غور لین دین کے عمل میں ڈائریکٹرز، سپانسرز، اکثریتی حصص داران (شیئرس ہولڈرز) اور ان کے رشتہ داروں کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد، اگر کوئی ہو،</p>
<p>ایم پی سی ایل نے نومبر 2020 میں 10 روپے فی شیئر کے حساب سے این آر ایل کے 20.9 ملین مکمل ادا شدہ عمومی شیئرز کے ذریعے این آر ایل میں 209 ملین روپے کی سرمایہ کاری سے اتفاق کر چکی ہے۔ ایم پی سی ایل پہلے ہی این آر ایل کے 9 ملین مکمل ادا شدہ عمومی شیئرز کی خریداری کرتے ہوئے 90 ملین روپے کی خریداری عمل میں لا چکا ہے۔ پہلے سے سرمایہ کاری کی گئی اور 119 ملین روپے کی مجوزہ سرمایہ کاری کی رقم کو این آر ایل بلوچستان میں فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے استعمال میں لانا / زیر کار سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آگے بڑھنے کا فیصلہ مذکورہ سٹڈی کے نتائج کی بنیاد پر لیا جائے گا ایک ایسے وقت کہ جب کارکردگی کا جائزہ ممکن ہو۔</p>	<p>(vi) اگر متعلقہ کمپنی میں یا اس سے وابستہ کام میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی ہو چکی ہے، تو اس طرح کی سرمایہ کاری کے نتائج کا جائزہ بشمول کسی بھی نقصان یا منسوخی کی مکمل معلومات / وضاحت</p>
<p>جیسا کہ اس بیان کے آغاز میں پیرا 5-1 میں بتایا جا چکا ہے۔</p>	<p>(vii) لین دین کے معاملے میں ممبران کیلئے دیگر کوئی بھی اہم ضروری تفصیلات</p>
	<p>(b) ایکویٹی انویسٹمنٹ سے متعلق اضافی انکشاف</p>
<p>10 روپے فی شیئر کی قیمت پر</p>	<p>(i) زیادہ سے زیادہ قیمت جس پر سیکیورٹیز حاصل کی جائیں گی</p>
<p>نا قابل اطلاق</p>	<p>(ii) لسٹڈ سیکیورٹیز کی صورت میں اگر قیمت خرید مارکیٹ پرائس سے زیادہ ہے اور ان لسٹڈ سیکیورٹیز کی صورت میں قیمت مناسب ہے، تو اس کا جواز پیش کیا جائے۔</p>



MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

(iii)	حاصل کی جانے والی سیکیورٹیز کی زیادہ سے زیادہ تعداد	11.9 ملین کے مکمل ادا شدہ عمومی شیئرز
(iv)	مجوزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد میں حاصل کردہ سیکیورٹیز کی تعداد اور فیصد	پہلے: 9 ملین (20 فیصد) بعد: 20.9 ملین (19 فیصد)
(v)	لسٹڈ سیکیورٹیز میں جہاں سرمایہ کاری کی تجویز پیش کی گئی ہے اسکے موجودہ اور اس سے پہلے کے بارہ ہفتوں کی اوزانی اوسط مارکیٹ لاگت	ناقابل اطلاق
(vi)	ان لسٹڈ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے لئے ذیلی ضابطہ (1) شق 5 کی روح سے مناسب لاگت کا تعین	این آر ایل فی الحال پری فریبلٹی مرحلے پر ہے ، لہذا اس مرحلے پر مناسب لاگت کا پتہ لگانا غیر موزوں ہے۔
ایم پی سی ایل کے ڈائریکٹرز ممبران کے لیے تصدیق کرتے ہیں کہ مجوزہ سرمایہ کاری کو ممبران کی منظوری کیلئے پیش کرنے سے قبل تمام ضروری احتیاط ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے۔		
یکم مارچ 2021 تک، ایم پی سی ایل کے شیئر ہولڈرز کی حالیہ دستیاب لسٹ کے مطابق نہ تو این آر ایل نہ ہی اس کے سپانسرز اور ڈائریکٹرز ایم پی سی ایل میں کسی قسم کے مفاد کے حامل ہیں، ماسوائے لبرٹی ملز لمیٹڈ (این آر ایل کا سپانسر) جو ایم پی سی ایل میں 133,500 شیئرز (حصص) کا حامل ہے جبکہ فہیم حیدر (ڈائریکٹر این آر ایل) ایم پی سی ایل کے ایم ڈی/سی ای او کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ماری پٹرولیم (لمیٹڈ) میں دو شیئرز (حصص) کے حامل ہیں۔		

بجکم بورڈ
 اسد ربانی
 کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
 بتاریخ 04 جون، 2021ء